

نسلی مساوات کے فروغ پر موجودہ اور مجوزہ اقدامات

لیگل ایڈ سروسز کونسل

لیگل ایڈ سروسز کونسل (LASC) محدود ذرائع کے حامل لوگوں کی قانون کے سامنے انصاف اور مساوات تک رسائی کو یقینی بنانے کی جدوجہد کر کے قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور بڑھانے میں فعال طور پر کردار ادا کرتی ہے۔ LASC نے کونسل کے ذریعہ سرٹیفکیٹ کی فراہمی کے لیے ایک امدادی اسکیم کو بھی لاگو کیا ہے جو ان افراد کی مدد کے لیے ہے جن کے پاس حتمی اپیل کی عدالت میں اپنی اپیل کے سلسلے میں قانونی امداد سے انکار پر دوبارہ جائزہ کے لیے ذرائع کی کمی ہے۔

● موجودہ اقدامات

LASC عوام کے لیے چینی اور/یا انگریزی میں انکوائری سروسز فراہم کرتی ہے۔ LASC کی ویب سائٹ پر موجود معلومات چینی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہے۔

● LASC کے زیر انتظام امدادی اسکیم کا نوٹس اور درخواست فارم چینی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہے۔

● امدادی اسکیم کے نوٹس اور درخواست فارم کا ترجمہ دس زبانوں میں، یعنی بنگالی، ہندی، بھاسا انڈونیشیا، نیپالی، پنجابی، تگالوگ، تامل، تھائی، اردو اور ویتنامی میں دستیاب ہے۔

● درخواست کرنے پر، آٹھ زبانوں، بھاسا انڈونیشیا، ہندی، نیپالی، پنجابی، تگالوگ، تھائی، اردو اور ویتنامی میں ترجمے کی خدمات، نسلی اقلیتوں کے رہائشیوں کے لیے ہم آہنگی اور فروغ کے مرکز کے ذریعہ ٹیلیفون پر، جہاں مناسب اور قابل عمل ہوا، خدمات فراہم کی جائیں گی۔

● LASC اپنی خدمات کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتی ہے اور جہاں ضروری ہو وہاں بہتری لاتی ہے۔

مستقبل کے کام کا جائزہ

● اضافی اقدامات جو کیے گئے ہیں/ کیے جائیں گے

LASC عوامی استفسارات یا امدادی اسکیم کے سلسلے میں معاملات کے لیے جہاں مناسب اور قابل عمل ہو سکا، مذکورہ بالا آٹھ زبانوں میں ٹیلیفون پر ترجمانی کی خدمات فراہم کرتی رہے

گی۔

- LASC عملے کی آگاہی اور متنوع نسل کے لوگوں کے استفسارات کا جواب دینے کے لیے عملے کی نسلی مساوات پر تربیتی کورسز میں شرکت کے انتظامات کرنا جاری رکھے گی۔

مذکورہ بالا اقدامات کے بارے میں استفسارات کے لیے ، برائے مہربانی مسٹر ہنری چین (Henry CHAN) ، ایگزیکٹو آفیسر (LASC) سے مندرجہ ذیل ذرائع کے ذریعے رابطہ کریں

ٹیلیفون نمبر : 2838 5010

فیکس نمبر : 2838 5053

ای میل : enquiry@lasc.hk

لیگل ایڈ سروسز کونسل
جولائی 2022